



Flindt Garden Anchor & Base

louis
poulsen

Design Christian Flindt



CE
UK
CA
EAC

| Lyskilde Light source Leuchtmittel Ljuskälla Sorgenti luminose Source lumineuse Fuente de luz Valonlähde مصدر الضوء | Spænding/frekvens Voltage/frequency Spannung/frequenz Spänning/frekvens Tensione/frequenza Voltage/frequence Tensión/frecuencia Jännite/taajuus ترددية/فولطية | Vægt Weight Gewicht Vikt Peso/ingombro Poids Peso Paino وزن | Isolationsklasse Protection class Schutzklasse Isolationsklass Classe di isolamento Protection au choc électrique Clase de aislamiento Eristysluokka الحماية من الصدمات الكهربائية | Tæthedsklasse Ingress protection Schutzart Kapslingsklass Grado di protezione Indice de protection Clase de protección Koteloituokka الوقاية من التسرب | Vandalklasse Impact protection Stoßfestigkeit Vandalklass Protezione contro gli urti Protection aux chocs mécaniques Protección contra impactos Iskunkestävyys الحماية من الإرتطام |
|---|---|---|--|--|--|
| LED | DC 24V | Max. 2 kg | Cl. III | Anchor/Base: IP44 | IK 06 |

DA
Støv aftørres med en tør, blød klud. Fedtpletter og lignende kan fjernes med en blød klud opvredet i lunkent vand (<50° C) tilsat mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel eller opløsningsmidler.

EN
Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth dampened in lukewarm water (<50° C) with a mild detergent. Never use detergents containing abrasives and solvents.

DE
Staub bitte mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen. Fettflecke und dgl. mit einem feuchten, in lauwarmem Wasser (<50° C) mit mildem Reinigungsmittel ausgewrungenen Lappen entfernen. Niemals Reinigungsmittel mit Schleifmittel oder Lösungsmittel verwenden.

SV
Lampan dammtorkas med en torr, mjuk trasa. Fettfläckar tas bort med ljummet vatten (<50° C) utblandat med mildt rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller lösningsmedel


IT
Pulire la polvere esterna con un panno morbido e asciutto. Rimuovere macchie di grasso ecc. con un panno morbido inumidito in acqua tiepida (<50° C) e con un detergente leggero. Non usare mai detergenti contenenti abrasivi o solventi.

FR
Essuyez la poussière avec un chiffon sec et doux. Enlevez les points de saleté etc. avec un chiffon doux imprégné d'eau claire tiède et de détergent doux. Ne jamais utiliser de détergents contenant des abrasifs et des solvants.


ES
Limpiar con paño seco y suave. Quitar manchas de grasa y otras con paño suave humedecido con agua templada (<50° C) con detergente poco agresivo. Nunca use detergentes que contengan abrasivos y disolventes.

FI
Pyyhi pölyt kuivalla pehmeällä liinalla. Poista rasvatahrat miedolla pesuaineella ja haalealla vedellä (<50° C) kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä liuottimia tai hankausaineita sisältäviä pesuaineita.


AR
مسح الغبار بقطعة قماش ناعمة وناشفة. إزالة البقع الدهنية وغيرها باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة بالماء الفاتر (أقل من 50 درجة مئوية) مع إضافة مسحوق تنظيف خفيف. يمنع استخدام المساحيق التي تحتوي على المواد الكاشطة أو المذيبات.



A



B



⚠ Max: x6 Fixtures

⚠ Wire total max: 30 m / 98.4 Ft

